

کل yesterday

روز daily

کل tomorrow

سوئیں گے	سوتے ہیں	سوئے	to sleep (v.i.) سونا
ناشتا کریں گے	ناشتا کرتے ہیں	ناشتا کیا	to eat breakfast (v.t.) ناشتا کرنا
نہائیں گے	نہاتے ہیں	نہائے	to bathe (v.i.) نہانا
پڑھائی کریں گے	پڑھائی کرتے ہیں	پڑھائی کی	to study (v.t.) پڑھائی کرنا

کتنے بجے؟

ساڑھے + 1/2 (3 1/2 onwards)

ڈیڑھ 1 1/2

ڈھائی 2 1/2

سوا 1 1/4 or + 1/4

پونے - 1/4

